



”منتر، تعویذ اور ٹوٹکا سب شرک ہیں“

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کو کہتے ہوئے سنا ہے: ”منتر، تعویذ اور ٹوٹکا سب شرک ہیں“
[صحیح] [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، جن کو کرنا شرک ہے مثلاً: 1- جھاڑ پھونک اور منتر: وہ شرکیہ باتیں جن کو زمانہ جاہلیت کے لوگ شفا حاصل کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے 2- سیپ وغیرہ سے بنے ہوئے تعویذ، جن کو بچوں اور جانوروں کے جسم میں نظر بد سے حفاظت کے لیے باندھا جاتا ہے 3- ٹوٹکا، جو میاں بیوی میں سے ایک کے اندر دوسرے کی محبت ڈالنے کے لیے کیے جاتے ہیں یہ تینوں کام شرکیہ اعمال ہیں کیوں کہ ان کاموں میں ایسی چیزوں کو سبب بنایا جاتا ہے، جو نہ تو دلیل سے ثابت شرعی سبب ہیں اور نہ تجربہ سے ثابت حسنی سبب ہیں یہی بات شرعی اسباب مثلاً قرآن کی تلاوت اور حسنی اسباب مثلاً تجربہ سے ثابت شدہ دواؤں کی، تو ان کا استعمال اس عقیدے کے ساتھ کرنا جائز ہے کہ یہ محض اسباب ہیں اور نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5273>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

